



## رسول اللہ ﷺ نے اس چیز میں شُفعہ کا فیصلہ فرمایا تھا جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستہ بدل دیا گئے تو پھر حق شُفعہ باقی نہیں رہتا

جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس چیز میں شُفعہ کا حق دیا تھا (ایک روایت کے میں فیصلہ فرمایا تھا) جو ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب حدود مقرر ہو گئیں اور راستہ بدل دیا گئے تو پھر حق شُفعہ باقی نہیں رہتا  
[صحیح] [متفق علیہ]

یہ حکیمانہ شریعت حق و عدالت کو ثابت کرنے اور شر اور نقصان کو دور کرنے کے لیے آئی ہے اسی وجہ سے جب زمینوں میں شراکت ضرر کا باعث بنے اور شراکت کا نقصان طول پکڑے اور تقسیم گراں گزرے، تو صاحب شریعت حکمت والی ذات (اللہ) نے حصہ دار کو شُفعہ کرنے کا حکم دیا یعنی جب ایک شریک مشترک زمین میں سے اپنا حصہ بیچے، تو شریعت شراکت کی وجہ سے ہونے والا نقصان کو دور کرنے کے لیے دوسرے شریک کو خریدار سے قیمت کے بدلے اس کا حصہ لینے کا حق دیتی ہے۔ یہ حق شریک کو اس وقت تک رہتا ہے جب تک زمین تقسیم نہ ہو، اس کی حد بندی نہ ہو اور اس کے راستے نہ بنیں۔ حد بندی اور دوسروں کے حصوں میں تمیز اور راستے بننے کے بعد کوئی شُفعہ نہیں کیونکہ اب شراکت کی وجہ سے وہ نقصان ختم ہو گیا جس کی وجہ سے دوسرے شریک کو خریدار سے مبیع (بیچی جانے والی شے) لینے کا حق تھا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6081>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

